



## سوال

(685) دین اسلام کا نام اسلام کیوں ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

دین اسلام کو اسلام کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس لیے کہ جو شخص اس دین میں داخل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ بَيْتِنا أَوْ مِمَّا حَوْلِنا فَلَا يَصْطِفِنا فِي الدُّنْيا وَآخِرَةِ لِمَنِ الضَّالِّمِينَ ۱۳۰ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۳۱ ... سورة البقرة

”اور ابراہیم کے دینے کون روگردانی کر سکتا ہے، بجز اس کے کہ جو نہایت نادان ہو ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیچو کاروں میں سے ہیں۔ جب ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔“

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۱۱۲ ... سورة البقرة

”جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے (یعنی ایمان لے آئے) اور وہ نیچو کار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے۔“

حدیث ما عنہ فی واللہ اعلم بالصواب

[فتاویٰ اسلامیہ](#)

ج 4 ص 520



## محدث فتویٰ